



سوال

میرے خاندان کی کمائی حرام ہے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں ایک بے روزگار مسلمان نوجوان ہوں۔ میرا خاندان کھانے پینے میں حرام کمائی خرچ کرتا ہے۔ کیا میری نماز ہو جاتی ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

حرام کمائی میں سے جو آپ کو دیا جائے آپ کے لئے اسے کھانا پہننا اور خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ ... سورة الطلاق

”اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، وہ اس کے لئے (رہ و مخن سے) مخلصی کی صورت پیدا کرے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے (وہم و) گمان بھی نہ ہو۔“

لیکن اس کا آپ کی نماز پر کوئی اثر نہ ہوگا۔ نماز صحیح ہوگی۔

حدا ما عندی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 1 ص 350

محدث فتویٰ